



سوال

گناہ سے تائب پر طعن کرنا کیسا ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گناہ سے تائب پر طعن کرنا کیسا ہے؟ ایک مولوی صاحب نے ایک گناہ سے اعلانیہ توبہ کی ہے مگر بعض لوگ پھر بھی طعن کرتے؟ ازراہ کرم کتاب وسنت کی روشنی میں جواب دیں
جزاکم اللہ خیرا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حدیث میں ہے :

«التائب من الذنب کمن لا ذنب له»

”یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ نہ کرنے والا۔“

اور یہ بھی حدیث میں ہے جو کسی پر کسی جرم کا طعن کرے اور وہ اس سے بری ہو تو وہ طعن اس پر لوٹ آتا ہے۔ پس جیسے مولوی صاحب مجرم تھے۔ اب یہ مجرم ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اہلحدیث

کتاب الایمان، مذاہب، ج 1 ص 167

